

A

- Abajo:** taht (تحت)
- Abalanzarse:** 'azanag (أزنگ)
- Asalorio:** taḥfāl (تحفال)
- Abandonar:** jal-lā (خلى) *fut.* ijal-lī
(يخلي) abandonado maḥḥal-lī
(متخلي)
- Abanico:** nšāša (نشاشة)
- Abaratar:** rajaš (رخص)
- Abaratarse:** tarjaš (ترخص)
- Abarca (calzado):** na'īl (نعيل);
yimba (جمبة)
- Abarrota:** ḥašā (حشى) *fut.* iahšī
(محشى) *abarrotado* maḥšī (يحشى)
- Abatido:** 'emḥammam (امحمم);
'emkaddar (امكدر)
- Abatir:** ṭayyaḥ (طيح)
- Abeja:** naḥla (نحلة) *pl.* neḥal (نحل)
- Abismo:** šerāṭ (صراط); jāsar (خاسر)
- Abjurar (de la religión):** beddel ed-
dīn (بدل الدين)
- Ablución:** uḏū' (وضوء)
- Abluciones (hacer las):** tuaḍ-ḍa'
(توضاء)
- Abogado:** ukīl (وكيل); muḥāmmī
(محامي)
- Abolir:** 'eguel-la' (اقطع)
- Abolladura:** meḍeḡṭa (مضغطة)
- Abollar:** deḡaṭ (ضغط)
- Abonar:** jal-laš (خلص)
- Aborrecer:** krah (كره)
- Abortar (una mujer):** jaššer (خصن)
- Abortar (un animal):** traḥ (طرح)
- Abotonar:** 'agfāl (أفقل) *abotonado*
magfūl (مققول)
- Abrevadero:** ḥōḍ (حوض) *pl.* 'aḥiāḍ
(صهريج); šehrīy (احياض)
- Abrevar:** segā (سقى) *fut.* iseguī
(يسقي)
- Abrigar:** lemm (لم)
- Abrigarse:** berek (برك)
- Abrijo:** ḡešāba (غشابة) *pl.* ḡešāšb
- (جلايب); yel-labīa (غشاشيب) *pl.*
yelālīb (جلايب)
- Abrochar:** 'agfāl (أفقل) *abrochado*
magfūl (مققول)
- Absolver:** ṭlag (طلق) *absuelto*
maṭlūg (مطلوق)
- Abuela:** yedda (جدة) *pl.* yeddāt
(جدات)
- Abuelo:** yedd (جد) *pl.* yeddūd (جدود)
- Abundancia:** ke ra (كثرة)
- Abundante:** yāser (ياسر); ka īr (كثير)
- Aburrimiento:** tešuaš (تشواش)
- Aburrir:** uarre (ورط)
- Aburrirse:** kad-dar (كدر); tekaddar
(شوئش); šuaš (تكنر)
- Acá:** 'ilah (الله)
- Acabar:** uḥā (وفى) *fut.* iuḥī (يوفي)
kemma (كتمل)
- Acacia:** ṭalḥa (طلحة); tāmat (تامات);
'amōr (أمور); 'auruār (أوروار)
- Acampar:** gay-yel (قيل) 'enzel
(انزل)
- Acantilado:** 'eṣraf (اجرف)
- Acariciar:** ḥaṣebeb (حبلب)
- Accidente:** ḥarr (حز); mḥālī (محالي)
- Acechar:** ḥefar (حفر)
- Aceite:** zeyt (زيت)
- Aceptación:** guebla (قبلة) *pl.* gueblāt
(قبول) o guebūl (قبيلات)
- Aceptar:** guebel (قبل)
- Acequia:** mašraf (مصرف)
- Acero:** hend (هند); ḥadīd en-nešārā
(حديد النصارى)
- Acompañar:** tāfeg ma' (تافق مع);
sayfeṭ (más pronombre
personal) (سيفط)
- Aconsejar:** uaššā (وصى) *fut.* iuaššī
(وصي); debbar (دبر)
- Acontentamiento:** meredda (مرددة) *pl.*
merād (مراد)
- Acordarse:** tefagad (تفقد)
- Acostarse:** bāt (بات) *fut.* ibāt (يبات);
tekā (يتكى) *fut.* itkī (يتكى); (*sobre*
el vientre) mebta' (مبتع)
- Acostumbrarse:** uālef be (والف ب)
- Acreeador:** mūl ed-deyn (مول الدين)
- Activo:** šagḡāl (شغال) *pl.* šagḡālīn
(شغالين); mešḡāl (مشغال) *pl.*
mešāḡīl (مشاغيل)
- Actualmente:** dreyk (دريك) derk
(درىك); drīk (درىك)
- Acuerdo:** uafqa (وفاق) uḥāq (وفاق)
- Acuerdo (de):** muāfaq (موافق)
- Acuerdo (llegar a):** tuāfaq (توافق)
rige la partícula على (*por*
ejemplo: "acordaron la venta",
"tuāfqū 'alā el bay'",
"توافقوا على",
البيع)
- Acusación:** tehma (تهمة)
- Acusado:** mehtūm (متهوم)
- Acusar:** them fī (*más pronombre*
personal) (تهم فى)
- Adelantar:** sebeg (سبق)
- Adelgazar:** 'eregg (ارقق); regu-gueg
(انقضض) 'engad (رقققق)
- Además:** uāš ānī (واش ثانى)
- Adición:** yema' (جمع)
- Adiós:** uad-da nākh le-mūlānā
(مع ودعناكه لمولانا)
ma' salāma (وداع)
uāda' el-mūlānā (سلامة
المولانا)
- Adivinar:** 'estaulā (استولى); guezzan
(قزّن)
- Adivino:** guezzān (قزّان); mestūlī
(مستولى)
- Adonde:** menayn (مينن)
- Adornarse:** teḥafel (تحفل)
- Adornos (mujer):** 'adiār (اديار)
- Adrede:** blā ḡard (بلا غرد)
(galicismo)
- Aduar:** dešra (دشرة)
- Advertir:** jabbar (خبر)